

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد (شعبہ پاکستانی زبانیں)

وارننگ

عزیز طلبہ! آپ یہ بات دھن نشین کر لیں کہ:

- 1- اگر آپ اپنی امتحانی مشق میں کسی اور کی تحریر میں سے مواد چوری کر کے لکھیں گے یا آپ اپنی امتحانی مشق کسی دوسرے طالب علم سے لکھواڈیں گے تو آپ سرٹیفکیٹ یا ڈگری سے محروم ہو سکتے ہیں خواہ اس کا علم کسی بھی مرحلہ پر ہو جائے۔
- 2- کسی دوسرے طالب علم سے ادھار لی گئی یا چوری کی گئی امتحانی مشق پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کی "مواد کی چوری" Plagiarism پالیسی کے مطابق سزا دی جائے گی۔

سسز: بہار 2013ء

کل نمبر: 100

کورس: ترجمہ کاری (کورس کوڈ: 6715)

سج: پلانچ ڈی (پاکستانی زبانیں و ادب)

امتحانی مشق نمبر 1

- سوال نمبر 1- ترجمے کی تعریف کیجیے اور اس کے عملی مسائل پر جامع نوٹ لکھیے۔ (35)
- سوال نمبر 2- قیام پاکستان کے بعد بخالی بورڈ پر ادب کے اردو تراجم پر جامع نوٹ لکھیں۔ (35)
- سوال نمبر 3- ترجمے کی مختلف تکنیکوں کا مفصل جائزہ پیش کیجیے۔ (30)

امتحانی مشق نمبر 2

کل نمبر: 100

- سوال نمبر 1- بطور ادب کے اردو تراجم پر مفصل نوٹ لکھیے۔ (35)
- سوال نمبر 2- اصطلاح سازی کے مفہوم طریق کار اور اقسام پر جامع نوٹ تحریر کیجیے۔ (35)
- سوال نمبر 3- سندھی ادب کے اردو تراجم کے حوالے سے آپ کے مطالعے کا نچوڑ کیا ہے؟ مفصل نوٹ تحریر کیجیے۔ (30)

[=====]